



LIDA Stories

lidastories.net

جاندانی کے بارے میں بات کرنا / Falando

sobre a família


✎ Espen Stranger-Johannessen

🔗 Billie Cejka Rises

📄 Yasir Tayab (ur), João Caramelo (pt)



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



Falando sobre a família

جاندانی کے بارے میں بات کرنا

🗨️ اردو / português 🇧🇪

3

📄 Yasir Tayab

🔗 Billie Cejka Rises

✎ Espen Stranger-Johannessen



“کی آپ ڪوئی خندان ہے؟”


...

“Tens algum familiar?”

“É uma boa ideia. Eu também espero que as minhas filhas vão para a universidade um dia.”

...


سہ مٹرے اچھی سوچ ہے۔ مجھے بھی امید ہے کہ مٹرے
”تہ بہت اچھی سوچ ہے۔ مجھے بھی امید ہے۔“
بچہ کسی دن یونیورسٹی چلتی گے۔“



“Sim, o meu marido e tenho duas filhas e um filho.”

...

”جی ہاں، مٹرے شوہر اور مٹرے دو بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔“





“میری بھی دو بیٹیاں ہیں، لیکن میں طلاق یافتہ ہوں۔”

...

“Eu também tenho duas filhas, mas sou divorciada.”



“وہ نوکری حاصل کر چکا ہے، لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ
اسے یونیورسٹی جانا چاہیے۔”


...

“Ele quer arranjar um emprego, mas eu digo-lhe que em vez disso devia ir para a Universidade.”

“Isso é fantástico! Eles crescem tão depressa. O que é que ele quer fazer a seguir?”

...

جیسے ہوئے پر سے جلدی اتنی جھٹا رہا ہے اچھا بہت ہے
 ”ذہن بچہ کر کے اس کے اس وہ بہت ہے“



“Que idade têm as tuas filhas?”

...

”ذہن بچہ کر کے اس کے اس وہ بہت ہے“





“مید چر ہل کی ہے۔ وہ نرسری اسکول جتی ہے۔ مریم دس
ہل کی ہے، اس لیے وہ اسکول جتی ہے۔”

...

“A Mina tem quatro anos. Ela anda no
jardim de infância. A Miriam tem dez anos,
já anda na escola.”



“میرے تھم بچے سکول میں ہیں۔ میرا بیٹا اگلے ہل
گریجویٹ ہو جائے گا۔”

...

“Todos os meus filhos andam na escola. O
meu filho vai concluir a escola no próximo
ano.”